



THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

Wednesday, the 20th May, 2026

TABLE OF CONTENTS

1. RECITATION FROM THE HOLY QUR`AN.....	1
2. RECITATION OF HADITH	1
3. RECITATION OF NAAT.....	1
4. NATIONAL ANTHEM	2
5. OBSERVANCE OF ONE MINUTE'S SILENCE	2
6. ANNOUNCEMENT <i>REG:</i> PRESENCE OF DISTINGUISHED DELEGATES FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LED BY MR. CAI DAFENG, VICE CHAIRMAN OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF CHINA ALONG WITH AMBASSADOR, MR. JIANG ZAIDONG IN THE SPEAKER'S BOX.....	2
7. REMARKS BY HONOURABLE SPEAKER ON THE 75TH ANNIVERSARY OF PAKISTAN-CHINA DIPLOMATIC RELATIONS	3
8. STATEMENTS BY PARLIAMENTARY LEADERS ON THE 75TH ANNIVERSARY OF PAKISTAN-CHINA DIPLOMATIC RELATIONS	3
9. RESOLUTION COMMEMORATING THE 75 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND REAFFIRMING COMMITMENT TO THE ALL-WEATHER STRATEGIC COOPERATIVE PARTNERSHIP – <i>(ADOPTED)</i>	8
10. POINTS OF ORDER.....	9
11. MOTION FOR SUSPENSION OF RULE – <i>(ADOPTED)</i>	11
12. LEAVE OF ABSENCE	11
13. POINTS OF ORDER.....	12
14. THE WAPDA SECURITY FORCE BILL, 2026 – <i>(INTRODUCED)</i>	17
15. CALLING ATTENTION NOTICE <i>REG:</i> NON-COMPLETION OF K-IV PROJECT – <i>(ANSWERED)</i>	18
16. POINTS OF ORDER.....	22
17. CALLING ATTENTION NOTICE <i>REG:</i> NON-AVAILABILITY OF TRANSFORMER REPAIR WORKSHOP/ LABORATORY IN DISTRICT LAYYAH, PUNJAB – <i>(ANSWERED)</i>	30

NATIONAL 1 ASSEMBLY OF PAKISTAN ASSEMBLY DEBATES

Wednesday, the 20th May, 2026

The National Assembly of Pakistan met in the National Assembly Hall (Parliament House) Islamabad, at 11:30 a.m. with the honourable Speaker (Sardar Ayaz Sadiq) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰئِزُونَ ﴿٢٠﴾

(سورة الحشر، آیات: 18 تا 20)

[ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً

تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق

ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔]

RECITATION OF HADITH

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْبِحْقَاءِ وَالْحِقْقَاءُ فِي النَّارِ -

[ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حباء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں سے اور بے

حیاتی بدی ہے اور بدی آگ میں ہے۔]

RECITATION OF NAAT

مشر میں قرب داویرِ محشر ملا مجھے

ایسا پیہروں کا پیہر ملا مجھے

اللہ کو سنانے لگا نعتِ مصطفیٰ
 جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے
 دیکھا جو غرق ہو کے محمدؐ کی ذات میں
 دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے

NATIONAL ANTHEM

جناب سپیکر: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ ہم نے Question Hour لینا ہے مگر اس سے پہلے ہمارا honourable delegation چائے سے تشریف لایا ہے۔ آج کے دن 75 سال پہلے جب diplomatic relationship between Pakistan and People's Republic of China establish ہوئی تھی۔ ہمارے guests آئیں گے تو ہم welcome کریں گے۔

OBSERVANCE OF ONE MINUTE'S SILENCE

جناب سپیکر: لُنڈ صاحب آپ کے رہنما کی وفات ہوئی ہے، ان کے لیے one minute silence کرنا ہے۔ جی خالد صاحب۔
 جناب خالد احمد خان لُنڈ: ہندو برادری کے بہت بڑے پیشوا تھے، Sadhram اور وہ مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ ان کے لیے اس چیز کی اہمیت نہیں تھی کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ میں request کروں گا کہ ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے۔

Mr. Speaker: One minute silence in respect of the religious leader.

(The House observed one minute's silence as a mark of respect on the demise of a religious leader.)

ANNOUNCEMENT REG: PRESENCE OF DISTINGUISHED DELEGATES FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LED BY MR. CAI DAFENG, VICE CHAIRMAN OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF CHINA ALONG WITH AMBASSADOR, MR. JIANG ZAI DONG IN THE SPEAKER'S BOX

Mr. Speaker: Thank you. I would like to draw the attention of the House, it is my profound pleasure to inform the honourable Members that the distinguished delegates from the brotherly country of the People's Republic of China led by his Excellency Mr. Cai Dafeng, Vice Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress of China along with his delegation as well as

Ambassador of China to Pakistan his Excellency Mr. Jiang Zaidong are sitting in the Speaker's box, we welcome them.

(Desk thumping.)

**REMARKS BY HONOURABLE SPEAKER ON THE 75TH ANNIVERSARY OF
PAKISTAN-CHINA DIPLOMATIC RELATIONS**

Mr. Speaker: Honourable Members! today is a special occasion as we are celebrating the 75th anniversary of establishment of the diplomatic relations between Pakistan and China. Excellency Mr. Cai Dafeng is leading a delegation to Pakistan to participate in the celebration; marking the 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Pakistan and China. He is a noted educationist and is known for his immense contribution towards cultural heritage conservation.

I recall with pleasure the visit of his Excellency Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China to Pakistan in April, 2015 and his historic address to the Parliament.

The Chinese President also inaugurated the then Prime Minister, Mian Muhammad Nawaz Sharif, the Chinese assisted Solar Power Project of the Parliament of Pakistan making it the first Parliament in the world to be solar and I think still it is the only one.

Availing this opportunity on behalf of the National Assembly of Pakistan and my own behalf, I also convey my best regards and facilitation to his Excellency Mr. Zhao Leji, Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China.

I recall meeting his Excellency in January during my State Visit to China. We warmly welcome our brothers to the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan.

**STATEMENTS BY PARLIAMENTARY LEADERS ON THE 75TH ANNIVERSARY OF
PAKISTAN-CHINA DIPLOMATIC RELATIONS**

I would request Members, we are short of time, so I would جناب سپیکر: اعظم صاحب۔ request just for a couple of minutes; we should please welcome our guests. So, from the government side Mr. Azam Nazeer Tarar.

Minister for Law and Justice and Human Rights (Senator Azam Nazeer Tarar): Thank you very much Mr. Speaker! I rise to join this House in welcoming our honored guest, His Excellency Mr. Cai Dafeng, the Vice-Chairman of the National People's Congress of the People's Republic of China, the distinguished Members of his delegation, and His Excellency Ambassador Xiaoyong, we are privileged by their presence here today Sir.

Their visit comes at a historic moment, the 75th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and China. For 75 years, the friendship between our two brotherly countries has stood as an example to the world. It is built on trust, on steadfast support, and on full respect for each other's sovereignty and core interests. It has been tested by times and by circumstances, and it has never wavered.

Few friendships between nations carry the same depth of confidence, goodwill, and consistency as the one between Pakistan and China. We also send our warmest greetings and sincere good wishes to His Excellency, the President, and to His Excellency, the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress, whose leadership continues to bring our two nations closer together.

Mr. Speaker! On this proud occasion, we renew our firm commitment to strengthening this historic partnership and to making the next 75 years even more dynamic, productive, and rewarding than the last. Long live Pakistan-China friendship.

(Desk Thumping.)

Mr. Speaker: Mehmood Khan Achakzai Sahib, Leader of the Opposition.

قائد حزب اختلاف (جناب محمود خان اچکزئی): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر! آپ کو بھی پتہ ہے اور سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے اور حکومت کے درمیان انتہائی serious differences ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ہمارے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم boycott پر تھے، ان سب اختلافات کو اس moment کے لیے suspend رکھتے ہوئے ہمارے ایسے خطرناک اور بیکار مطالبات بھی نہیں تھے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبات کر رہے تھے کہ کم از کم عمران خان اس ملک کا سب سے popular leader ہے۔

جناب سپیکر: آج کے دن تو پھر ان پر concentrate کریں۔ یہ مناسب نہیں۔

جناب محمود خان اچکزئی: وہ بیمار ہے۔ اس کی مرضی کے ہسپتال میں ان کو لیکر نہیں جایا جاتا۔

جناب سپیکر: I think ایک دوست ملک ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ Please Let us talk on this subject first.

open the mic.

جناب محمود خان اچکزئی: دوسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کی ملاقات پر پابندی ہٹائی جائے۔ ہم boycott پر تھے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کی عوام اور چائیز دوستوں کے درمیان ایک بہت بڑی گہری دوستی ہے۔ ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہماریہ سے اونچی اور بجا کا بل سے گہری۔ اس خوشی کے دن ان دوستوں کو welcome کرنے کے لیے ہم نے boycott suspend کیا۔ چائیز ہمارے ہمسائے ہیں، چائیز اور ہمارے درمیان بہت بہترین دوستیاں ہیں، میں اپنی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور ان تمام پارٹیوں کی طرف سے جو ہمیں support کرتے ہیں۔ ہم انہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاء اللہ پاکستان کی عوام کبھی بھی چائیز دوستوں کے احسانات نہیں بھولیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں اور جو خطے کے متعلق ان کا جو قائدانہ role ہے یا بین الاقوامی طور پر جو چھوٹی قوموں کے لیے کر رہے ہیں۔ we salute them. Welcome you all. God bless you. Thank you.

(Desk Thumping.)

Mr. Speaker: Thank you. Syed Naveed Qamar Sahib.

Syed Naveed Qamar: Mr. Speaker, I also join my voice in welcoming the delegation of the Standing Committee of the People's Congress of China.

Mr. Speaker! on behalf of Pakistan People's Party, I take pride in the fact that Mr. Speaker! On behalf of Pakistan People's Party, I take pride in the fact that this relationship was strengthened during the times of the founder of our party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who had a special relationship with the leadership of the time, Chairman Mao Zedong, Premier Zhou Enlai, and later on, Deng Xiaoping. But this friendship has continued over the years and every successive government of Pakistan has only worked to strengthen this relationship.

Once again, I must say that the President of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, has taken it upon himself to visit every single region of China without fail. And perhaps he is the most...

(Desk Thumping.)

Syed Naveed Qamar: He is the most traveled head of state or government from Pakistan to China. This only shows that there's no ordinary relationship with any other bilateral basis, but China has a special place not only in our hearts and minds, but also in our partnership.

So, today, as we celebrate 75 years of unfettered relationships, I think on behalf of every Pakistani, I must say that not only are our friends here, but our brothers are here and our best partners are here. Welcome today.

Mr. Speaker: Sher Ali Arbab Shaib.

Mr. Sher Ali Arbab: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ As mentioned, I'd like to welcome the delegation, the Chinese National People's Congress delegation, led by the honourable Mr. Cai Dafeng.

We had an extremely interesting and pleasant exchange earlier, and it gives me immense pleasure to welcome this delegation. And as earlier mentioned by the honourable Speaker, we have good relations with many countries, but what we have with the Chinese is very personal and very close to our hearts. During the last tenure when I was given the responsibility of chairing the CPEC committee, our leader, the Prime Minister Imran Khan, had instructed us to not leave any stone unturned in striving and taking along everyone, the Government and the Opposition, to make efforts in making CPEC a success.

(Desk thumping.)

Mr. Sher Ali Arbab: And I think it is because of the efforts of all the governments and our government, led by Prime Minister Imran Khan, that we have reached a stage that now we are set to commence CPEC 2.0. Also, as I had mentioned earlier, we thank our Chinese brothers and sisters and our neighbours. Although we have other neighbours, but I think what we have with China is much more special for the support that you provided us in terms of hardware, planes, missiles, which we were able to use and use to the optimum against our common, not very friendly neighbour. So, we thank you for the equipment, but you would also appreciate that the pilots we have had really demonstrated how planes and missiles were used and how, despite being outnumbered, we were able to end up doing a 6-0. Thank you very much.

Mr. Speaker: Jawed Hanif Sahib. Amin Sahib.

Syed Amin Ul Haq: Thank you very much Mr. Speaker! It is a great honour for me and a pleasure to formally welcome, on behalf of the MQM Pakistan, the distinguished delegation led by the Vice-Chairman of the Standing Committee of

the 14th National People's Congress of the People of the Republic of China to the National Assembly of Pakistan.

The friendship between our two nations has stood the test of time and remains the cornerstone of Pakistan's foreign policy, enjoying complete national consensus, across all political and social segments. This year is especially significant. We celebrate the 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Pakistan and China, a remarkable milestone that reflects the strength, resilience and depth of our enduring partnership.

At the time of the crisis, I did remember that in the 1965 war or the 1971 war against India, the people of China, the Government of China fully supported Pakistan, and those people stood shoulder to shoulder with the Pakistani people. Yes, for that, from the inner core of the heart, we say thank you very much to the Chinese Government and to the Chinese people. Pakistan deeply values China's political, economic, military and diplomatic support, as well as its sincere friendship with the people of Pakistan.

Today, when this honourable delegation is visiting Pakistan, I did remember that in 2015, the then President of China, Mr. Xi Jinping, visited Pakistan. And also, he delivered a wonderful speech at the Joint Session of the Parliament and spoke about the brotherhood harmony among the masses. Yes, today we remember those memories with great respect.

At a time of evolving regional and global challenges, the importance of a strong Pakistan-China relation has become even more vital. We remain committed to further strengthening our cooperation at bilateral, regional and multilateral level, including the United Nations, the SCO and other international forums. We look forward to carry this historic friendship to an even greater height in the coming years. Thank you very much.

Mr. Speaker: Shahida Akhtar Ali Sahiba.

Ms. Shahida Begum: Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to express our views and to extend the warm sentiments to the distinguished guests from the People's Republic of China. I would like to second the honourable Members, the honourable Mr. Cai Dafeng, Vice-Chairman of the National People's Congress of China, and the distinguished Members from China.

On behalf of the people of Pakistan and my party, Jamiat Ulama-E-Islam (JUI), and my leadership, Hazrat Moulana Fazl Ur Rehman, extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished Chinese guests to the Parliament of Pakistan on this historic occasion of the 75th anniversary of the diplomatic relations between China and Pakistan. For 75 years, Pakistan and China have shared a relationship founded on sincerity, mutual trust, respect and support. This friendship has stood firm through every challenge and has become a symbol of enduring cooperation and brotherhood.

China has always stood beside Pakistan as a trusted friend, and the people of Pakistan deeply value this timeless relationship. Our partnership continues to grow stronger in diplomacy, economic development, regional connectivity and people-to-people cooperation. As we commemorate this historic milestone, we reaffirm our commitment to further strengthening the Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership for peace, prosperity and stability in the region.

I extend a heartfelt congratulation to the leadership and to the people of both countries, on completing 75 years of exemplary friendship and cooperation. May this iron brotherhood continue to flourish for generations to come. Pakistan-China friendship long live. Thank you.

RESOLUTION COMMEMORATING THE 75TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND REAFFIRMING COMMITMENT TO THE ALL-WEATHER STRATEGIC COOPERATIVE PARTNERSHIP

Mr. Speaker: The honourable Members have other commitments, so Resolution, Ata Tarar Sahib, will you read it? Dr. Tariq Fazal Sahib.

Minister for Parliamentary Affairs, (Mr. Tariq Fazal Chaudhary): Thank you very much, Honourable Speaker Sahib!

The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan extends its warmest felicitations and heartfelt congratulations to the Government and people of the People's Republic of China on the occasion of the 75th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two fraternal nations, and expresses the hope that this bond of friendship shall continue to flourish with ever greater vigour in the decades to come.

This House reaffirms its unwavering commitment to the All-Weather Strategic Cooperative Partnership between Pakistan and China, and pledges the continued support of the Pakistani legislature for the deepening and broadening of bilateral relations across all spheres of cooperation.

Expressing its strong support for the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) as a transformative vehicle for sustainable socio-economic development, regional integration, and shared prosperity, the House affirms its legislative commitment to facilitating the full and timely realization of CPEC projects for the benefit of the people of Pakistan.

This House warmly welcomes to its precincts the Honourable Vice-Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China, H.E. Mr. Cai Dafeng and the distinguished Members of the accompanying delegation. The National Assembly places on record its deep appreciation for this significant gesture of goodwill and solidarity, which is a testament to the special nature of the fraternal ties binding the two nations.

This House reiterates its commitment to strengthening parliamentary diplomacy and legislative cooperation between the National Assembly of Pakistan and the National People's Congress of the People's Republic of China, as an indispensable pillar of the broader bilateral relationship.

This House expresses its firm resolve that the next seventy-five years shall witness an even stronger, more dynamic, and mutually beneficial relationship between Pakistan and China, grounded in the shared aspirations of the two peoples for peace, development, and prosperity.

Pakistan-China Friendship Zindabad.

Mr. Speaker: Now, I put the Resolution to the House. The question is that the Resolution, as moved, be adopted.

(The Resolution was adopted unanimously.)

POINTS OF ORDER

جناب سپیکر: Question Hour پر آجیئے۔ سید رفیع اللہ صاحب۔

سید رفیع اللہ: سوال نمبر 23

سید رفیع اللہ: جناب سپیکر! یہ جواب میں خود own کر رہے ہیں کہ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ وزارت کی جانب سے سوالات کے جوابات عمومی غیر تسلی بخش انداز میں دیئے جا رہے ہیں۔ جواب میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بعض Oil Marketing Companies (OMCs) اور پٹرول پمپ مصنوعات کی قلت پیدا کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، اس ضمن میں شکایات بھی موصول ہوئی ہیں تاہم کارروائی کی تفصیلات کی بجائے صرف WhatsApp groups بنانے کا ذکر کیا ہے۔ کیا حکومت WhatsApp group کے ذریعے چلائی جا رہی ہے؟ لہذا یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ مذکورہ تحقیقاتی انکوائری کب تک مکمل کی جائے گی؟

جناب سپیکر: سوال کیجئے۔

سید رفیع اللہ: سر! یہ سوال تو میں نے کیا تھا، اس کا جواب غیر تسلی بخش آیا ہے اس لئے میں تفصیلاً چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب ملے۔ کیا ایران امریکا جنگ شروع ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: آپ تقریر نہیں سوال کیجئے please۔

سید رفیع اللہ: سر! میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اس نتیجے میں جو۔۔۔۔۔

Mr. Speaker: I, would also like to bring to the notice of Your Excellency that the First Lady of Pakistan is seated among the Members and also extends a warm welcome to you.

جناب سپیکر: علی پرویز صاحب۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: سر! اگر ذرا kindly repeat کر دیں۔

جناب سپیکر: یہ Question No. 23 تھا۔ یہ کوئی confusion ہو گئی ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ آج Question

Hour شاید نہیں کریں گے۔ because of the Chinese delegation.

جناب طارق فضل چوہدری: میں آپ کے پاس dais پر تھا۔

جناب سپیکر: لاء منسٹر صاحب، mic کھولیں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جناب سپیکر! سارے اسی میں تھے، ہم نے بھی ابھی سینٹ میں جانا ہے، کچھ لوگوں نے انہیں وہاں پر receive کرنا ہے تو اگر questions کو آگے refer کر دیں for tomorrow sitting تو اس Business میں آجائیں گے ایک دو اور ایٹوز ہیں ان پر بات ہو جائے۔

جناب سپیکر: آپ Motion move کریں، یہ سوال کل پر تو نہیں جاسکتے مگر یہ آگے چلے جائیں گے اور کب جائیں گے ابھی میں کچھ

نہیں کہہ سکتا۔

(مداخلت)

MOTION FOR SUSPENSION OF RULE

جناب سپیکر: ٹھیک ہے، چیئر مین صاحب ان کو باہر سے receive کر لیں۔ Motion move کیجیے۔

Senator Azam Nazeer Tarar: I, move under rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007 that the Question Hour for today may be suspended and it may be taken at some other day.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

LEAVE OF ABSENCE

Mr. Speaker: Leave applications.

Mr. Speaker: Mr. Muhammad Abdul Ghaffar Watto has requested for the grant of leave from 11th to 19th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Pir Aftab Hussain Shah Jilani has requested for the grant of leave for 11th, 12th and from 15th May, 2026, till conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Asma Alamgir has requested for the grant of leave for 19th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Fateh Ullah Khan has requested for the grant of leave from 19th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Mehmood Qadir Khan has requested for the grant of leave from 20th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Shandana Gulzar Khan has requested for the grant of leave for 12th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Farakh Khan has requested for the grant of leave for the whole complete Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Umber Majeed has requested for the grant of leave for the whole 27th Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave for 20th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Changaze Ahmad Khan has requested for the grant of leave for 19th and 20th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Muhammad Azhar Khan Leghari has requested for the grant of leave for 18th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Muhammad Ali Sarfraz has requested for the grant of leave for 18th and 19th May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

POINTS OF ORDER

جناب سپیکر: راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔

راجہ پرویز اشرف: جناب سپیکر! شکریہ۔ یہ 18 تاریخ کا واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک clip viral ہوا اور اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون جو drug supply کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب court میں آئی تو اس نے میرا نام لیا۔ بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا clip آیا ان کے وکیل آئے اور انہوں نے explanation دی کہ یہ خاتون جس وقت court میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے pressurize کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کوئی اور راجہ پرویز بھی ہو سکتا، میرا اس سے کیا تعلق اور لینا دینا ہو سکتا ہے لیکن بہر حال بعد میں یہ clarification جس وقت آگئی، سوشل میڈیا پر تو بھانت بھانت کی بولیاں تھیں اور مختلف لوگ اس پر اپنے comments کر رہے تھے، Vlog بنا رہے تھے

جناب سپیکر! میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا، میں اپنی پارٹی کا اور اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام دوستوں کا، family Members کا اور خاص طور پر اپنے سیاسی مخالفین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کا احساس کیا اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ یہ بات کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آج اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے خدا کے فضل و کرم سے ایک بے داغ زندگی گزاری ہے، میں اس ہاؤس کا چوتھی بار ممبر ہوں، میں اس ملک کا

وزیر اعظم رہا ہوں، نیشنل اسمبلی کا سپیکر رہا ہوں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو fake news ہے یا یہ جو شوشہ نوز ہیں، کسی کو malign کرنے کے لئے یا کوئی اور motive حاصل کرنے کیلئے، دیکھیں اسی خاتون نے پہلے کسی اور شخصیت کا نام لیا اور میرا خیال ہے deflection کرنے کیلئے کہ توجہ ہٹ جائے یا اس سے کوئی اور فائدہ ہو جائے یا معاملے کو کسی اور طرف ڈالنے کی کوشش کی کہ آپس میں بحث چھڑ جائے تو میں جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہیے کہ جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے، تفتیش مکمل نہ ہو جائے، court میں کیس نہ آجائے تو اس کے بارے میں ہر قسم کے تبصرے نہ صرف اس سوسائٹی کے لئے نقصان دہ ہیں بلکہ کئی شرفاء کی پگڑیاں اچھالنے کے مترادف ہے۔

جناب والا! یہ تو ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی کسی سیاستدان پر الزام آتا ہے تو اس کو میڈیا کے کٹھرے میں کھڑے کر کے اس کی ایسی کی ایسی پھیر دی جاتی ہے اور پھر 10 سال کے بعد court بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دس سال آپ نے جو اس کی ایسی کی ایسی پھیری ہے، اب آپ اس کی کیا عزت بحال کریں گے۔ لاء منسٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے باقی عمائدین اور سیاستدان بیٹھے ہیں تو میری صرف یہ گزارش ہے۔ میں کسی پہ کوئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بلکہ میں Chief Minister صاحب کا بھی شکر گزار رہا ہوں۔ وہ کل تشریف لائے۔ آپ نے خود وہاں کے IG سے اور باقی جو حکام تھے، ان سے جب معلومات حاصل کیں تو آپ کے سامنے حقیقت آئی۔ مجھے بھی پتا چل گیا آپ کے sources سے کہ یہ ایک بڑی لغو قسم کی بات تھی اور اس کے پیچھے کوئی اور motive تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس بحث کو کسی اور طرف الجھا دیا جائے، تو بڑے بڑے کوئی مشہور نام یا جو national level کی personalities ہیں، ان کا نام لیا جائے۔ اور میں چاہوں گا کہ آئندہ، میں تو اس کو face کر رہا ہوں، کر لوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے، جیسے آپ کو کہا، کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں، وہ بھی آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی اور کی پگڑی نہ اچھالی جائے کسی اور سیاستدان کو اس کا شکر نہ ہونا پڑے تو اس کے لیے کوئی ایسا mechanism ہونا چاہیے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ جو social media ہے، اس کے بھی کوئی حدود و قیود مقرر کیے جانے چاہئیں۔ اس کا بھی کوئی protocol بننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش تھی۔ ویسے آج آپ نے Interior Committee میں بھی بھیجا ہے اس کو، تو میری یہی بات تھی۔

لیکن میرا اس سے ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بات کروں یا اپنے آپ کو کوئی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ frivolous، baseless قسم کے الزامات ہیں، بہتان ہیں۔ نہ تو ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس میں بڑا clear ہے ہمارے لیے instruction کہ بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ثبوت کے بغیر۔

اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج اس کو House میں رکھوں۔ یہ ہمارا گھر ہے، میری ساری برادری بیٹھی ہے۔ میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اب اس وقت نہیں ہیں، انہوں نے بھی میرے سے اظہارِ بیعتی کیا۔ دوسری طرف بیٹھے دوستوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم آپ کے بارے میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں خیال آسکتا ہے۔

تو سپیکر صاحب! میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو گناہ گار ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہ کی، میں سمجھتا ہوں، کردار کشی، اس کا چہرہ tarnish کرنا، اس کو کسی قسم کی ذہنی اذیت دینی، گھر میں family ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، extended family ہوتی ہے، آپ کے voters ہوتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سیاست میں ایک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر یہ نظام ہی شروع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اب اپنی گزار بیٹھے ہیں۔ اب جو آئندہ آنے والی نسل ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جنہوں نے اس field میں آنا ہے، ان کے لیے ہم کوئی آسانی پیدا کر دیں، کوئی ایسی اچھی قانون سازی کر دیں، یا معاشرے کو یہ بات سمجھا دیں۔

میں ان vloggers سے بھی یہ گزارش کروں گا، ان دوستوں سے بھی کروں گا، جو اپنی rating کے لیے، اس میں headline کوئی اور ہوتی ہے اور subject کوئی اور ہوتا ہے اور اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ ”آخر تک دیکھیں“، آخر تک دیکھنے کے باوجود کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو شاید چند dollars تو ضرور مل جاتے ہوں گے اس حوالے سے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا فتیخ فعل ہے۔ میرے اوپر یہ گزری ہے، میں نے سہلی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے، ان شاء اللہ میں اب زندگی کے کوئی ایسے حصے میں ہوں جہاں ویسے بھی یہ چیزیں مجھ پر fit ہونا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو دوسرے میرے ساتھی ہیں، کل یہ شکار نہ ہوں۔

تو میری یہ گزارش ہوگی Law Minister صاحب سے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ اور ایک دفعہ پھر، جناب سپیکر آپ کا شکریہ۔ آپ نے بڑا، میں سمجھتا ہوں، prompt action لیا، اور ایسے ہی ایک Speaker کو بطور Custodian of the House ہونا چاہیے۔ Custodian کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری عزتوں کے بھی محافظ ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہو، اس کا بھی آپ نے تدارک کرنا ہے۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام Members کا۔ First Lady کا بھی یہاں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، اور انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اس کا motive کوئی اور ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کر جب کوئی سوچیں گے، اس کا کوئی حل نکلے گا، اور آئندہ کوئی شخص، کوئی شریف، صرف سیاستدان نہیں، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ جب تک اس پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکے، اس کا media trial نہیں ہونا چاہیے، اس کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، اس کا face خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تک وہ باعزت ہے جب تک اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوتا، قانون تو اس کو بھی باعزت قرار دیتا ہے۔ بہت مہربانی، جناب، شکریہ۔

جناب سپیکر: راجہ صاحب، میرا خیال ہے آپ کو سب ہی جانتے ہیں۔ آپ کی dignity کو بھی جانتے ہیں، آپ کی honesty کو بھی جانتے ہیں، آپ کے رکھ رکھاؤ کو بھی جانتے ہیں، آپ کی Members، dealing with your colleagues, I think کسی کو اس چیز پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کل میں نے فون کیا آپ کی موجودگی میں، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ مگر آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ others should not suffer۔ یہاں ایک کسی vlogger نے National Assembly کے premises میں کھڑے ہو کے ایک Minister کے خلاف الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ہم نے اس کے خلاف بھی action لیا۔ سو آپ پہلے بھی ایک ایسے

motivated case سے گزر چکے ہیں جس میں باعزت بری بھی ہو گئے، مگر وہ ساہا سال کی اذیت بھی گزارنی پڑی۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہئیں۔

آج G.C صاحب تشریف لارہے ہیں ساڑھے بارہ بجے میرا خیال ہے وہ statement بھی دیں گے کمیٹی میں اور in writing بھی دیں گے۔ We need it in writing also. اور اعظم صاحب میں یہ suggest کروں گا کہ، to set an example, would it be appropriate کہ یہ جو cyber crime کے issues ہیں جو اس طرح کے الزامات کے without verification لوگ لگا دیتے ہیں یہ vlogs کرتے ہیں تو کیا اس کے خلاف ہمیں ایک application نہیں دینی چاہیے۔ اس پر ہمیں ذرا مشورہ دیجیے۔ ہم ویسے یہ matter Interior کی کمیٹی کو بھیج چکے ہیں اور وہ آپ کے علم میں ہے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جیسے آپ نے بھی کہا میرے خیال میں اس ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اور اس ایوان کی کارروائی دیکھنے والا کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی جو frivolous news ہے یا اس طرح کا Item ہے اس پر نہ یقین رکھنا چاہیے اور نہ ہی رکھتا ہے۔ راجہ صاحب آپ کی ساری زندگی ہم سب کے سامنے ہے اور آپ نے خود کہہ دیا کہ پچھلے دو دن کے reactions سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہو گا کہ یہ اتنی ایک بوگی اور frivolous بات تھی جس پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا لیکن at the same time آپ، بجا فرما رہے ہیں اور آپ نے یہ ہمت اور جرأت کی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس پر مل بیٹھ کر بیٹھیں۔ آج آپ اپنے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، اپنے کردار کی پختگی کی وجہ سے، اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ face کر رہے ہیں، لیکن کوئی کمزور طبع بھی ہے ہماری طرح کے، جو شاید گھروں میں بیٹھ جائیں اور روناد ہونا شروع کر دے کہ یہ کس طرح کے الزامات لگ گئے ہیں اور کیا ہوا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا ایوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں کبھی بھی ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں۔ کسی بھی معزز کن کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی تو جو حکومتی سطح پر جس طرح کا action required ہے، وہ لیا جائے گا۔ اور سپیکر صاحب! ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس matter کی cognizance لیتے ہوئے Interior Committee کو سونپا ہے۔ وہ ایک appropriate forum ہے جو deliberate بھی کرے گا اور inquire بھی کرے گا۔

سر! تیس سال میں نے گزارے ہیں پیشہ وکالت میں، اور کافی سارے عرصے میں criminal side کی practice میں رہا ہوں۔ میرا جو بظاہر پہلا view ہے، اور میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو بات راجہ صاحب نے کہی، یہ بات وہی ہوگی کہ یہ جو shrewd criminals ہوتے ہیں، یہ عام طور پر اس طرح کے tactics استعمال کرتے ہیں کہ مختلف مشہور آدمیوں کے نام لے کے connect کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ساری توجہ ادھر مبذول ہو جائے اور اس کے case سے توجہ ہٹ جائے۔

سر! میں اس ایوان کے توسط سے اپنا جو electronic media ہے، جو کہ regulated ہے، وزیر اطلاعات یہاں پہنچے، میں ان تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا اور PEMRA کی Chairperson تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ ہماری decency, morality کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ایک تو جو پہلے دن entry تھی، جس طرح سے وہ craft کی گئی تھی اس خاتون کی، اور پھر اسے جس قدر، جیسے کہتے ہیں ناں، auditory bombing کی گئی، وہ ایک visual bombing تھی کہ آپ کو بار بار، سر! دس دن سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ کیا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ملک میں، سر؟ کیا کوئی دیگر crimes یاد میسر چیزیں جو ہیں، وہ نہیں ہو رہی اس ملک میں؟

تو کئی دفعہ media بھی غیر ضروری، معذرت کے ساتھ، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ، بالکل information دینا، آپ کا right ہے، اور لوگوں کا بھی یہ right ہے کہ ان تک information پہنچے، لیکن جو decency, morality، یہ احتیاط ہو کہ کہیں یہ لوگوں کے fundamental rights کی breach تو نہیں ہے۔ Dignity and honor جو ہے، it is the most precious fundamental right given by the Constitution to every person in Pakistan. یہ آرام سے خبر چلا دینا، اور پھر اس کو بار بار circulate کرنا کہ یہ بات ہو گئی ہے، یہ فلاں کے بارے میں خبر نکل جانے کے بعد اس کے جو consequences ہیں، وہی جانتا ہے جس کے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارے ایوان میں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ سر! میں House کو assure کرتا ہوں we will inquire into this matter کہ ان کے وکیل نے یہ Investigating Officer shall be brought to task and I assure we will report back to this House.

جو بات کہی گئی، وہ بڑی صائب اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں مل بیٹھے کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تو انہیں تو ہم نے بنا رکھے ہیں اور ان کا selective use ہوتا بھی ہے۔ میں selective اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم situation to situation کرتے ہیں، باقی عام حالات میں ہم چپ کر کے بیٹھے جاتے ہیں۔ تو قانون کی عملداری اور پاسداری ہونی چاہیے۔ تو انہیں موجود ہیں، اس طرح کی غلط اور scandalous خبروں کو پھیلانے کے، جس کی وجہ سے کسی کا استحقاق، کسی کی privacy، کسی کی dignity اور honor tarnish ہوتی ہو۔ تو اس پہ ہم باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے کے بات بھی ہم کریں گے اور انشاء اللہ العزیز، I will get back to you آپ کو Chamber میں بھی report کریں گے اور کہیں گے تو ایوان میں بھی کریں گے۔ اختتام سے پہلے، راجہ صاحب، ہم سب آپ کو جانتے ہیں۔ آپ بہت honourable آدمی ہیں۔ یہ گندگی کے اس طرح کے چھینٹے ارد گرد سے اڑیں گے اور وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب سپیکر! اسے logical end تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔

ایک اور چیز آج ہم یہ آئی جی کو بھی ہدایت کریں گے کہ یہ جو ملزم کو لے کے آنا اور Court میں پیش کرنا اور remand لینا ہوتا ہے، یہ کوئی televised ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ کچھ administrative actions ہیں۔ اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ تحقیق کے بغیر اگر اس طرح کے شوٹے باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں اور کتنے سارے لوگ damage ہوں گے۔ تو انہیں پورے measures لینے ہوں گے۔ اور اس میں کوئی کسی قسم کی اظہارِ آزادیِ رائے پہ قدغن آنے کی بات نہیں ہے کہ اسے quietly لایا جائے Court میں، cordoned area میں لیا جائے، وہ پیش ہو، جو بات ہونی ہے عدالت میں ہو اور اسے لے جایا جائے۔ Video link کی بھی facilities ہیں۔ یہ سارا کچھ ہے۔ یہ وہاں پہ انہیں بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ I will also contribute in this regard.

جناب سپیکر: میری honourable Members کو ایک request ہوگی۔ This is a menace جو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ ہم نے provinces کو بھی strengthen کرنا ہے اور Islamabad میں اس کا کوئی لائحہ عمل بنائیں کہ How to get rid of these people who are supplying these drugs to innocent children, منہ پہ ایک دفعہ لگ جاتی ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں please آپ لوگ کچھ کریں۔ ہمیں debate کرنی پڑے، law strengthen کرنا پڑے، اس کے اوپر please ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ میری سب سے request ہے۔

ایک Call Attention ہے، ایک introduction of Bill ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ Button دبانے کا طریقہ ملحوظ خاطر رکھیے۔ اعظم صاحب، ایک introduction of Bill ہے، یہ کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد Call Attention میں جو جو صاحب یہاں پہ ہیں، مجھے معین وٹو صاحب نظر آرہے ہیں، تو ہم آپ کا لیں گے۔ اوہیں لغاری صاحب کا ہم کل تک لے جائیں گے۔ اگلے Call Attention کو کل کے لیے defer کر دیں گے۔ Item No. 4, Mueen Watto Sahib to move Item No. 4.

THE WAPDA SECURITY FORCE BILL, 2026

Minister for Water Resources (Mr. Muhammad Mueen Watto): Thank you Mr. Speaker! I, introduce a Bill to provide for the constitution and regulation of Pakistan Water and Power Development Authority Security Force [The WAPDA Security Force Bill, 2026].

Mr. Speaker: A Bill to provide for the constitution and regulation of Pakistan Water and Power Development Authority Security Force [The WAPDA Security Force Bill, 2026], stands introduced.

(The Bill was introduced.)

CALLING ATTENTION NOTICE REG: NON-COMPLETION OF K-IV PROJECT

Mr. Speaker: Item No. 3. Syed Amin Ul Haq please move Item No. 3.

Syed Amin Ul Haq: Thank you Mr. Speaker! I invite attention of the Minister for Water Resources to a matter of urgent public importance regarding non-completion of K-IV Project despite huge expenditure incurred thereon, causing grave concern amongst the public.

Mr. Speaker: Muhammad Mueen Watto Sahib to make a brief statement.

جناب محمد معین وٹو: شکریہ، جناب سپیکر! یہ Greater Karachi Bulk Water Supply Scheme K-IV کے بارے میں معزز دوست نے فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ project یقیناً بہت اہم ہے اور بہت بڑا بھی ہے، خاص طور پر کراچی کے لوگوں کے لیے۔ Water supply میں جو ان کو facility میسر آئے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ، December, 2026 میں ان شاء اللہ یہ WAPDA کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے complete ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس پہ آج تک کتنے اخراجات آچکے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک billion rupees 94.67 وفاقی حکومت کی طرف سے اس پہ خرچ ہو چکے ہیں۔ شکریہ۔

(اس موقع پر جناب سپیکر نے کرسی صدارت خالی کی اور جناب چیئر پرسن علی زاہد کرسی صدارت پر متمکن ہوئے۔)

جناب چیئر پرسن: جی، سید امین الحق صاحب ایک سوال پوچھیں۔

سید امین الحق: شکریہ، جناب والا! K-IV کا منصوبہ غالباً 2009-10 میں شروع ہونا تھا، لیکن اُس وقت صوبائی حکومت کی نااہلی کے بنا پر پانچ سال تک شیلف میں پڑا رہا۔ 2015 میں PC-1 منظور ہونے کے بعد اس پہ کام شروع ہوتا ہے۔ وفاق کی طرف سے ساڑھے بارہ ارب روپے اور غالباً ساڑھے بارہ ارب روپے صوبائی حکومت کو دینے تھے۔ جناب والا! یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ وفاق کی طرف سے پورے ساڑھے بارہ ارب روپے خرچ کر دیے گئے، لیکن اُس وقت صوبائی حکومت کی طرف سے ایک روپے خرچ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بنا پر یہ منصوبہ شیلف میں چلا گیا۔ کراچی، جو پانی کی بوند بوند کو ترس رہا تھا، جو پاکستان کو 75 percent revenue دے رہا ہے اور وہاں کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے۔

MQM کی کاوشوں کی بدولت، اُس وقت کی وفاقی حکومت سے مل کر اور میں آج ان کی غیر موجودگی میں بھی اسد عمر صاحب کا thank

you very much کروں گا کہ صوبائی حکومت سے منصوبے کو نکالا اور وفاق میں WAPDA کو hand over کیا گیا غالباً

September, 2020 میں۔ وہ منصوبہ جو 26 ارب روپے کا تھا، بڑھ کر 126 ارب روپے کا ہو گیا۔ WAPDA نے اس پر کام شروع کیا ہے۔

کراچی کی total requirement per day کے حساب سے 1300 MGD ہے اور پانی 650 MGD ملتا ہے۔ جناب والا! simple formula ہے۔ آدھے کراچی کو ایک دن پانی دے دیں، آدھے کراچی کو دوسرے دن پانی دے دیں اور کراچی میں پانی کا problem ختم ہو جائے گا۔ Water Board اور صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کراچی کے عوام پانی tanker خرید کر لیتے ہیں۔ یہ جو corruption اور favouritism, nepotism ہے، اس کو کون روکے گا؟

اب میں سوال کی طرف آجاتا ہوں۔ honourable Minister Sahib نے فرمایا کہ غالباً December, 2026 میں اس کو مکمل کر دیا جائے۔ It is a very good news and I do appreciate لیکن جناب والا! million dollar question کہاں پر ہے؟ واپڈا بہترین کام کر رہا ہے۔ واپڈا نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور 121 کلو میٹر کراچی تک لے آیا ہے۔ مسئلہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ Distribution of the water اور augmentation کی pipeline بچھانے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ بد قسمتی سے اس پر almost 2 percent بھی کام نہیں ہوا ہے۔ اگر واپڈا کراچی کی دہلیز پر دسمبر 2026 میں پانی لے کر آتا ہے۔ اس وقت کی صوبائی حکومت کی نااہلی اور کراچی دشمنی کی بدولت اگلے 2 سال تک کراچی کے عوام کو پانی نہیں ملے گا۔

جناب چیئر پرسن: لہذا سوال ہو گیا ہے، اپنا سوال مکمل کریں۔

سید امین الحق: میرا سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت، واپڈا، سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر make sure کرے گی کہ جو distribution of the pipeline کراچی میں ہے، وہ کب تک مکمل ہوگی؟

جناب چیئر پرسن: امین صاحب ایک سوال ہے۔ معین وٹو صاحب۔

(مداخلت)

جناب چیئر پرسن: تشریف رکھیں۔ منسٹر صاحب کو جواب دینے دیں please۔

جناب محمد معین وٹو: شکریہ، جناب سپیکر! تشریف رکھیں please۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ WAPDA نے کراچی میں تین points ایسے ہیں جہاں پانی پہنچانا ہے وہ پیری، منگھو پیر اور نار تھ ایسٹ کراچی شامل ہیں۔ جو واپڈا کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، میں اس کے بارے میں یہ statement دے رہا ہوں کہ وہ ان شاء اللہ دسمبر 2026 تک واپڈا اور وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری مکمل کر دیں گے۔ اس منصوبے کا تقریباً 67.9 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے میرے دوستوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت اور واپڈا کی طرف سے کام میں

کوئی کمی نہیں آئے گی اور منصوبہ بروقت مکمل ہوگا۔ مزید اگر اطمینان کے لیے ضرورت ہو تو کراچی میں ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز اور متعلقہ ذمہ داران کو بلا لیا جائے گا تاکہ ہر ادارے کی ذمہ داری واضح ہو سکے۔

Mr. Chairperson: Thank you. Jawed Hanif Khan Sahib, please ask one question. Please be brief.

جناب محمد جاوید حنیف خان: شکریہ جناب سپیکر! کراچی کا پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے اور 2003 سے کراچی کے لوگ اس بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتیں ہیں۔

کراچی کی جو importance ہے اس کو پانی دینے کے لیے کسی کی intent ہی نہیں ہے، نہ federal government کی ہے نہ provincial government کی ہے، responsibility, basically, provincial government کی تھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتے رہے finally انہوں نے طے کیا کہ پچیس ارب روپے کے اندر یہ project شروع ہو گا PC-1 بنی اور اتنی گندی PC-1 بنائی کہ اس کا پورا پورا design بیکار تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو cancel کرنا پڑا۔ Finally ہم جب اس زمانے میں تھے، ہم نے کوشش کر کے اس کو transfer کرایا federal government کے پاس۔ Federal Government میں 126 billion سے اس project پر دوبارہ کام شروع کیا گیا۔ Federal Government کی پچھلے سال کی جو negligence ہے کہ چالیس billion required تھے اس project کو اس سال ختم کرنے کے لیے، 2025 میں ختم ہو جاتا۔ انہوں نے صرف 8.2 billion رکھا ہے اس کے اندر، یہ سنجیدگی ہے کراچی کے بارے میں کہ چالیس billion کی requirement ہے پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے وہاں 8.2 billion رکھا۔ اب جو یہ PC-1 ہے یہ روائز ہو چکی ہے، 172 billion پر چلی گئی ہے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہو گا کہ جناب یہ 126 بلین میں کمپلیٹ کریں گے یا 172 بلین میں مکمل کریں گے۔ اس کے ٹوٹل چار component ہیں یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک پروجیکٹ کر رہی ہے federal government تین کمپوننٹ جو اس کے ہیں ایک ہے کلری بیگاری جس کے اندر پانی آتا ہے دریائے سندھ سے، Keenjhar Lake کے اندر، اس پر بھی کام slow ہے دوسرا حصہ اس کا augmentation کا ہے، جس کے اندر 96 kilometer lines ڈالنی ہیں اور ابھی پانچ سو میٹر لائن بھی نہیں ڈالی گئی ہے، کراچی کے اندر distribution کے لیے، چوتھا کمپوننٹ اس کا جو ہے پاور ہاؤس بننا ہے پچاس megawatt کا، وہ بھی provincial government کی ذمہ داری ہے، وہ بھی زیرو ہے، مجھے یہ بتائیں کہ تمام جو لوگ جو گورنمنٹس سے تعلق رکھتے ہیں یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر پیسے کا پانی نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں بیٹھ جائیں۔

جناب چیئر پرسن: جناب معین وٹو صاحب۔

جناب محمد معین وٹو: اس میں ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جی 71 billion اس کی مزید جو ابھی ریکوارمنٹ ہے وہ پلاننگ ڈویژن سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بوقتِ ضرورت ہمیں موصول بھی ہو جائیں گے اور میں جو commitment میں دے رہے ہیں ان شاء اللہ اس کے مطابق یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ جہاں تک کراچی سٹی میں سپلائی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میری تجویز ہے بلکہ سارے دوستوں نے بھی یہ چاہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی وہاں میٹنگ رکھ لیں اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز اور ذمہ دار لوگ ہیں وہ سارے آجائیں گے۔ وہاں اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ کتنا کام کہاں پہ نامکمل ہے اور اس کے مکمل کرنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں ہی فیصلہ ہو جائے گا۔

جناب چیئر پرسن: محمد معین عامر پیرزادہ صاحب موجود نہیں ہیں، سید حفیظ الدین صاحب، اگلا سوال کریں۔

سید حفیظ الدین: بہت شکریہ جناب چیئر پرسن! اصل میں اس مسئلے پر جاوید حنیف صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور جو صورت حال کراچی کی ہے میں صرف آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ پانی کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا خود میں انڈسٹریل ایریا کا ایم این اے ہوں، اُس سے پہلے ایم پی اے بھی وہاں سے تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی کی وجہ سے اور بجلی کی وجہ سے تمام انڈسٹری بند ہے اور ابھی جو بات ہوئی ہے کہ اس ایٹو کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ اپنی یہ آبرویشن بھی دے دیں کہ سندھ گورنمنٹ کے متعلقہ محکمے اور سندھ گورنمنٹ بھی اس کے اندر حاضر ہو اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر۔ یہ on record آجانی چاہیے کیونکہ ساری کی ساری کوتاہی، بیشتر اور یہ نوڈس بلین سے بڑھ کر اور 126 billion پہ چلا گیا۔ اس ساری صورت حال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کراچی کو پیناسار کھنے کی تمام تدبیریں پوری طریقے سے کارآمد کی جا رہی ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طریقے سے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کراچی کے پانی کے مسئلے کو ایڈریس کریں اور اس کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار نکالیں۔ میرا سوال یہی ہے کہ اب اس موجودہ بجٹ میں کتنی رقم رکھی جا رہی ہے اس کے بارے میں تفصیل بتائیں۔

جناب چیئر پرسن: حفیظ الدین صاحب سارے stakeholders meeting میں موجود ہوں گے ان شاء اللہ۔ جناب معین

وٹو صاحب۔

جناب محمد معین وٹو: شکریہ جناب چیئر پرسن! میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مزید 71 بلین کی ضرورت ہے جہاں تک کہ اس معاملے کے مکمل طور پر تعین کرنے کا سوال ہے تو وہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو چیئر مین اسٹینڈنگ کمیٹی تمام متعلقین کو وہاں اس میٹنگ میں invite بھی کر سکتے ہیں اور وہاں اس کا تعین بھی ہو جائے گا اور ان شاء اللہ جو میرے دوستوں کو شکایت ہے یہ یقیناً کراچی میں پانی کی سپلائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ابھی حل ہونے جا رہا ہے کہ 260 million gallons per day اس منصوبے سے سپلائی جاری ہوگی۔ میرے خیال میں اس کے بعد جب یہ آپریشنل ہو جائے گا تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ جب وفاقی حکومت کی طرف سے میں بار بار تعین دہانی کروا رہا ہوں کہ ان شاء اللہ دسمبر 2026

میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ جہاں تک صوبائی حکومت سے متعلق جو بھی کام کرنے والا ہے تو میں صوبائی حکومت سے بھی رابطہ کروں گا کہ وہ بھی within
ٹائم پانی کی سپلائی اور distribution کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے۔

Mr. Chairperson: Thank you. Mr. Mubarak Zeb Sahib on Point of Order.

(مداخلت)

جناب چیئر پرسن: کمیٹی کا کہہ دیا ہے کہ وہاں سارے stakeholders ہوں گے۔ معین وٹو صاحب please ensure کیجئے

گا۔

POINTS OF ORDER

جناب چیئر پرسن: مبارک زیب صاحب۔

معاون خصوصی برائے وزیراعظم (جناب مبارک زیب): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکریہ جناب چیئر پرسن! آج میں اس معزز
ایوان کی توجہ ایک نہایت سنگین مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قبائلی اضلاع بالخصوص ضلع باجوڑ کئی سالوں سے بد امنی کا شکار ہے۔ حالات اس
قدر تشویشناک ہو چکے ہیں کہ عام شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔

(مداخلت)

جناب چیئر پرسن: ایک منٹ، Standing Committee کو refer کر دیا ہے۔ جی مبارک زیب صاحب۔

جناب مبارک زیب: افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بد امنی کا سب سے زیادہ اثر ہمارے بے گناہ عوام پر پڑ رہا ہے۔ یہ واقعات ناقابل
برداشت ہیں جن میں ہمارے معصوم بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ گزشتہ دو مہینوں میں افغانستان کی جانب سے پچیس سے زائد مختلف واقعات پیش آئے
ہیں۔ کل رات Ranger's check-post کے سامنے ایک گھر پر راکٹ اور مارٹر گولا گرا جس کے نتیجے میں دو بچیاں اور دو خواتین شدید زخمی ہو
گئیں۔ جناب سپیکر! اس کے ساتھ تحصیل سلارزئی میں کیونکہ وہ ہماری اپنی تحصیل ہے، پولیو مہم کے دوران سکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی ہے جس
میں دو سکیورٹی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ جناب سپیکر! میں اس معزز ایوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کب تک ہمارے معصوم شہری اسی طرح بے دردی
سے شہید اور ہم عدم تحفظ کا شکار ہوتے رہیں گے۔

جناب سپیکر! جب ملک میں امن نہ ہو تو زندگی صرف درد اور تکلیف بن جاتی ہے اور آج یہی کیفیت ہمارے باجوڑ کی ہے۔

جناب سپیکر! Budget کا Session آ رہا ہے ہمارے جتنے بھی بھائی علاقے کی ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ تو واحد میں بد قسمت نمائندہ
ہوں کہ میرا تعلق tribal belt سے ہے۔ بد قسمتی یہ ہے کہ صورت حال صرف امن و امان تک محدود نہیں ہے، ترقیاتی کام بھی نہ ہونے کے برابر
ہیں۔ سڑکیں کھنڈرات بن چکی ہیں health اور education شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

سپیکر صاحب! نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جن پر پوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف بیانات اور وعدوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وقت کا تقاضہ ہے کہ عملی اقدامات کیے جائیں، عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔

آخر میں وفاقی اور صوبائی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ قبائلی اضلاع کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا، یہ صرف ترقیاتی منصوبے نہیں بلکہ ہمارے قبائلی اضلاع کے مستقبل کا سوال ہے۔ شکر یہ سپیکر صاحب۔

جناب چیئر پرسن: شکر یہ۔ عالیہ کامران صاحبہ، پلیز۔

محترمہ عالیہ کامران: جی بہت شکر یہ محترم آپ کا۔ محترم یہ جو austerity measures لیے گئے تھے ذرا ان پہ بات کرنی ہے کہ کتنا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اور کیا وہ اس طرح سے effective ثابت ہوئے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ measures لیے تھے۔

سر! ایک رپورٹ کے مطابق عام دنوں میں پیٹرول کا import bill per week 300 million تھا۔ لیکن ان دنوں میں جب سے ہم نے austerity measures لیے اور یہ جنگ کے جو حالات تھے۔ ان دنوں میں سر! پیٹرول کا import bill 800 million تھا یعنی 500 ملین کا واضح فرق دیکھا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی تو یہ بل شاید اگر double بھی کریں تب بھی 600 بنتا ہے۔

تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی consumption زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جو measures لیے گئے تھے ان پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا یا وہ effective ثابت نہیں ہوئے۔

Sir! M-Tag کے اندر ہم نے دیکھا کہ motorcycles اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگیں اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر جگہ جگہ manmade checkpoints بنائے گئے ہیں اور میرے خیال میں اگر ان checkpoints پر جو گاڑیوں کا رش ہے اور جس طرح سے لوگوں کو تکلیف ہے۔ تو اس چیز پر بھی کافی ہم قابو پاسکتے ہیں۔

سر! وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ austerity measures جو لیے جائیں گے ان کا third party audit ہوگا۔ تو کیا وہ آڈٹ ہو چکا ہے یا اگر نہیں ہوا تو کب تک ہوگا کہ یہ کتنے فائدہ مند تھے؟

سر! ایک اور اہم چیز جو میں اس Chair کے knowledge میں لانا چاہتی ہوں۔ سر! اس میں یہ تھا کہ PDM کے دور حکومت میں ہم سب ممبران کو 50 millions دیے گئے تھے SDGs کے تحت، سر! مجھے بھی دیے گئے۔ لیکن وہ مکمل خرچ نہیں ہو پائے کیونکہ میں وہاں پر solar کا مطالبہ کر رہی تھی اپنے city کے اندر کہ تمام مدارس پہ solar install کروائے جائیں اور بار بار فائلیں جاتی تھیں Power division کے اندر کہ Power division کے under نہیں آتا اور کیس واپس آجاتا تھا۔

سر! تو اسی طرح سے ہوتے ہوتے وہ پیسے خرچ نہیں ہو پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پیسے چلے گئے ہیں لاہور میں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ بلوچستان کو جو آپ نے fund دیا تھا وہ لاہور میں کیا کر رہا ہے اور کیوں پڑا ہوا ہے۔ مطلب کب تک بلوچستان کے معاملات میں نمک پاشی ہوتی رہے گی اور بلوچستان کے پیسوں کو آپ لاہور میں لگاتے رہیں گے۔

تو سر! یہ میرا مطالبہ ہے کہ اس کو فوراً دیکھا جائے کہ آخر وہ پیسے لاہور میں کیوں پڑے ہیں؟ اور وہ کہاں پہ اب خرچ کیے جائیں گے؟ وہ جس مقصد کے لیے مجھے دیے گئے تھے وہ فوراً واپس مجھے ملنے چاہئیں تاکہ میں اپنے صوبے میں SDGs کے تحت ان کو خرچ کر سکوں۔ بہت شکر یہ جی۔

جناب چیئر پرسن: جمال شاہ کا کڑ صاحب not present۔ وسیم حسین صاحب۔

سید وسیم حسین: شکر یہ جناب چیئر مین! میں ایک اہم issue کی طرف آپ کی اور ایوان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ابھی Power Division کی طرف سے Court کے اندر ایک matter گیا ہوا ہے اور اس میں طے ہوا ہے کہ 17 سے 22 گریڈ کے جتنے لوگوں کو مفت units مل رہے تھے بجلی کی مد میں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ بہت اچھا اقدام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کی تمام DISCOs۔۔۔۔

(اذان ظہر)

جناب چیئر پرسن: سید وسیم حسین صاحب۔

سید وسیم حسین: مسٹر چیئر مین صاحب! تو میں چاہتا ہوں کہ 17 گریڈ سے above کے جتنے بھی لوگوں کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ ان کے بجلی کے یونٹس ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ پورے پاکستان کی تمام DISCOs میں ہونا چاہیے۔ چند DISCOs کو یعنی دو یا تین DISCOs کے اندر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پھر second phase کے اندر 1 سے 16 گریڈ کے employees کے units کو ختم کیا جا رہا ہے۔

میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس وقت کوئی منسٹر موجود نہیں ہے، تو سٹیٹنگ کمیٹی میں بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ اب ان کو یونٹس ختم کر کے پیسے دیے جائیں گے۔

اب آپ بتائیں کہ بجلی کمپنی کے آفیسر کے گھر پہ کوئی meter reader جا کے اس کے meter check کر سکتا ہے یعنی کہ double corruption ہوگی، اور double حالات خراب ہونگے کہ ان کو پیسے بھی ملیں گے اور یونٹ بھی free میں چلائے جائیں گے۔

دوسری بات میری اسی سے related ہے کہ Ministry کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کچھ DISCOs کو privatize کرنے کی طرف جارہے ہیں۔ دیکھیں سندھ کے اندر 2 کمپنیاں ہیں، ایک HESCO اور ایک HESCO-SEPCO کمپنی کے اندر ابھی تقریباً ہمارے 47,48 feeders loadshedding free ہو چکے ہیں۔ اگر 47,48 feeder free ہیں اور Minister صاحب اس جگہ پہ کھڑے ہو کے Floor of the House پہ یہ admit کر رہے ہیں کہ کمپنی کی progress بہت اچھی ہے۔ اگر کمپنی کی progress اچھی ہے تو پھر اس کو کیوں privatize کرنے کی طرف جارہے ہیں۔ یہ ایک بڑا serious matter ہے۔

اسی طریقے سے یہ matter ہے جیسے Genco کے employees کو Genco کے تمام power کے جو sector تھے جب بجلی بنانے والی کمپنیوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ میری پارٹی کی قیادت نے، امین بھائی یہاں موجود ہیں۔ امین بھائی ہمارے ذمہ دار بھی ہیں۔ ہم گئے Minister صاحب کو کہا ہے کہ یہ 2800 خاندانوں کو آپ بے روزگار کریں گے تو ایک عذاب پورے پاکستان میں آئے گا۔ جب تمام DISCOs میں چھ، سات، سات ہزار vacancies خالی ہیں۔ تو ان employees کو جب آپ وہاں Genco سے فارغ کر دیتے ہیں، تو ان کو DISCOs میں adjust کیا جائے۔ اور میں Minister on the Floor of the House صاحب اور Prime Minister Mian Muhammad Shehbaz Sharif صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ initiative لیا اور کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیا۔ اسی طریقے سے میں اپنی آخری بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ corruption کاراستہ کھل رہا ہے، کسی meter reader کی ہمت ہی نہیں ہوگی اور یہ ایسی ہی بات ہو رہی ہے کہ تھانے کے SHO کو کہا جائے کہ IG کے گھر کی جا کر checking کر لے یا SSP کی checking کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو corruption ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو DISCOs فائدہ دے رہی ہیں، جو DISCOs profit میں جا رہی ہیں، ان کو privatize کرنا کسی بھی طور پر قبول کرنے والی بات نہیں ہوگی، اس پہ ہم شدید قسم کا احتجاج کریں گے اگر privatize کی طرف گئے تو۔ بہت شکریہ۔

جناب چیئر پرسن: شکریہ۔ فتح اللہ خان صاحب۔

جناب فتح اللہ خان: جناب سپیکر! شکریہ، میں مشکور ہوں کہ آج اس ایوان میں آنے والے بجٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ میں نے گزشتہ دو budgets میں یہاں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جناب والا! ہم لاکھوں ووٹ لے کر اس ایوان میں پہنچتے ہیں، اور بجٹ جب آتا ہے تو وہ بند کمروں میں بنتا ہے۔ جو MNAs elect ہو کر آتے ہیں تو ان کی ترجیحات کا کوئی تحفظ نہیں کیا جاتا ہے یا ان سے کوئی پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کے علاقے میں کس چیز کی deficiency ہے۔

ابھی چونکہ تیسرا بجٹ آ رہا ہے تو میں اپنے اس ایوان اور منتخب حکومت سے appeal کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ صاف ستھرے پینے کے پانی کا ہے۔ اس کے لیے وہاں پر ایک خصوصی mega project رکھا جائے تاکہ ہم کم از کم اپنے لوگوں کو صاف ستھرا پانی مہیا کر سکیں۔ اسی طرح جو 2022 میں flood آیا تھا، میں کئی بار یہاں پر question دے چکا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ اس دفعہ ہماری main Chashma Right Bank Canal (CRBC) جس نے ڈیرہ اسماعیل خان کی تقدیر بدلی اور وہاں پر لوگوں کو روزگار مہیا ہوا، میں خدا کی قسم سے کہتا ہوں، آج بھی لوگوں کے فون آئے تھے، جب سے flood آیا ہے، اس پر rehabilitation کیلئے کوئی single penny نہیں رکھی گئی۔ جو پانی ہمارے لیے مختص ہے، نہ پنجاب کو پورا جا رہا ہے، نہ ہمارے KP کو مل رہا ہے تو اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔

اسی طرح میری constituency میں گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ درازندہ اور درابین تحصیل میں نکلا ہے، جو اگر پورے پاکستان کو مہیا کی جائے، اور اس کا اتنا pressure ہے کہ یہ پورے پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابین اور درازندہ کے لیے کوئی ایسا mess point نہیں رکھا گیا کہ جہاں سے گیس فراہم ہو سکے، وہاں پر کوئی ایسا unit رکھا جائے تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔

آخر میں میں ایک request کروں گا، میں نے پچھلی تقریر میں بھی یہی کہا تھا، شاید حکومتی ایوان میں بیٹھے ہوئے اس بات کو گپ سمجھ رہے ہیں۔ 2022 میں جو flood آیا تھا اس میں 140 اموات کے انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ آج میں اس ایوان کے سامنے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، حکومت کے 4 کروڑ روپے جو ڈی جی خان کی ان اموات پر انہوں نے تقسیم کیے ہیں، میں اپنی جیب سے Government کو واپس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پنجاب میں flood آیا تو ان کو تمام سہولیات ملیں، پنجابی میرے بھائی ہیں، گلگت میں flood آیا تو تمام سہولیات اور compensation ملی۔ اسی طرح سندھ میں بھی 2022 میں آیا تھا، بلاول بھٹو صاحب نے سندھ کے لیے اسی حکومت سے اپنے لوگوں کو وہ fund فراہم کیا۔ میرے سوال کا جواب تو آتا ہے کہ 140 اموات کے ہم نے پیسے دے دیے ہیں، آج تک 38 ہزار بے گھر ہونیوالوں کیلئے رقم نہیں رکھی گئیں، اگر اس دفعہ ان کے لیے رقم مختص نہ کی گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو آپ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، اور اگر وہاں کو حصہ نہیں سمجھتے، تو میں اپنے اس غریب عوام کے لیے تادم بھوک ہڑتال کا اعلان کر رہا ہوں۔ اگر بجٹ پیش ہو اور ان کے لیے رقم مختص نہ کی گئی، تو میں جب اس بھوک ہڑتال سے شہید ہوں گا تو اپنے اسی ایوان میں بیٹھے ہوئے، میری شہادت کی FIR وزیر اعظم پاکستان، وزیر خزانہ، اور NDMA، جو responsible ادارہ ہے، جو خود مانتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اتنی بڑی تباہ کاری ہوئی تھی، آج تک ان کے لیے ایک روپیہ بھی مختص نہیں ہوا، تو میں آپ لوگوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را ڈیرہ اسماعیل خان کے ان غریب عوام پر ترس کھاتے ہوئے، مجھے اور کوئی scheme نہیں چاہیے لیکن ان غریبوں کی چھت بنانے کیلئے رقم مختص کیجئے۔

Thank you very much.

جناب چیئر پرسن: عثمان صاحب۔

جناب محمد عثمان بادینی: شکریہ۔ جناب! میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، کونسل میں Customs کا ایک warehouse تھا، اور اس warehouse میں لوگوں کا کھربوں روپے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ پاکستان Customs میں موجود چور اور ڈاکوؤں نے پہلے اس Customs warehouse کو لوٹا، اس سے قیمتی چیزیں نکالیں، اس کے بعد اس کو آگ لگا دی۔ ایک گنتی کے مطابق وہاں کوئی سات سو کے قریب گاڑیاں جلی ہیں۔

دوسری جانب بلوچستان اس وقت آج کے دن پاکستان کا سب سے بڑا taxpayer ہے لیکن FBR والوں نے Lakpass custom پر، جو غریب طبقہ تھا، چھ آٹھ بندوں نے مل کر جو ایک گاڑی خریدی تھی، کبھی documents کے نام پر، کبھی یہ کہ تفتان سے

trading documents پچھے نہیں ہیں تو آپ اپنی گاڑی دو دن، چار دن یا چھ دن کھڑی کریں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ لوگوں کی جو اتنی گاڑیاں جل گئیں، آیا Customs حکام اس کے پابند ہیں، FBR اس کا پابند ہے کہ ان غریبوں کی گاڑیاں ان کو واپس کرے؟ مزے کی بات ہے کہ جس چیز پہ تفتان Customs میں duty جمع ہوئی ہے، پاکستان نے اس پہ Customs لیا ہے، ان کو بھی لک پاس پہ روکا گیا اور روکنے کے 10 سے 12 دن بعد ایک ایسی آگ لگتی ہے جو بے قابو ہوتی ہے۔ پاکستان Customs کی تو حالت یہ ہے، کہ لک پاس کو سٹے سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن Customs والے کو سٹے شہر کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی 75 کروڑ کا سونا اور چاندی بیچ کے اس میں دو نمبر کار کھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے، لیکن اتنا ضرور بتایا جائے، کہ جن غریبوں کے motorcycle پکڑے، جن کے truck پکڑے، جن کی وینیں پکڑیں، جن کی کاریں روکیں کہ ان کی documentation صحیح نہیں ہے، ہم FBR سے confirm کر کے آپ کی گاڑیاں واپس کریں گے، لیکن وہ سب کی سب جل کے راکھ ہو گئیں۔ بلوچستان میں ویسے بھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ۔۔۔۔

جناب چیئر پرسن: عثمان صاحب آپ کا point آگیا ہے، wind up کریں۔

جناب محمد عثمان بادینی: دوسری جانب یہ کہ اب medical posts کی اسلام آباد میں آئی ہیں، اُس میں سندھ کا نام ہے، پنجاب کا نام ہے اور KP کا نام ہے، تو کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسلام آباد کی posts پر apply ہی نہیں کر سکتے؟ میرے پاس رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو تین صوبوں کا نام ہے، چوتھے کا نام نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان کے بچے کیوں باغی ہو رہے ہیں۔ خدارا بلوچستان کے بچوں کو ان کا حق دیں، جو بلوچستان کا quota federal میں ہے، اس quota کو بلوچستان کے بچوں سے fill کریں۔ اب تو اس quota کیلئے ہم رو رہے تھے، جس میں بلوچستان کا نام تھا، کل کے اشتہار پر میں تو پریشان ہو گیا کہ بلوچستان کا نام ہی انہوں نے کاٹ دیا ہے۔ اب بندہ روئے تو روئے کہاں؟ جائے تو جائے کہاں؟ اسمبلی کا Floor تو یہی ہے، ہم یہیں بول سکتے ہیں، اب یہاں سے اگر آپ مہربانی کر کے کوئی ایک ایسا order دیں، ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا کچھ حل کر سکیں۔

جناب چیئر پرسن: ڈاکٹر شازیہ ثوبیہ صاحبہ، please۔

ڈاکٹر شازیہ ثوبیہ مسلم سومرو: شکریہ سر۔ کہ آپ مجھے اس time بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ سر! بہت زیادہ issues ہیں، لیکن میں صرف چند issues کو highlight کرنا چاہوں گی۔ ملک میں سب سے بڑا issue لوڈ شیڈنگ کا ہے اور ہمارے Minister صاحب نے national TV پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان میں load shedding ختم کر دی گئی ہے، تو میں اپنے علاقے پتو عاقل کی بات کرنا چاہوں گی کہ سر وہاں پہ 18 سے 20 گھنٹے شہری علاقوں میں اور 18 سے 22 گھنٹے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو کیا پتو عاقل پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان میں نہیں count ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ تو سر! میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ اگر کہیں کسی بھی

transformer کے جل جانے کی بات ہوتی ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شکایت کہاں پہ درج کروائیں۔ لوگ جب اس عملے سے contact کرتے بھی ہیں تو دو دو دن، تین تین دن گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی وہ شکایات دور نہیں ہوتیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ بنو عاقل شہر کے بیچ میں سے National Highway کا ایک روڈ گزرتا ہے، جس کی حالت بہت زیادہ بری ہے، اور میں یہ request کروں گی کہ آپ please Communication والوں سے کہیں کہ وہ اس چیز پر ذرا نظر ثانی کریں کہ بنو عاقل میں جو main road ہے National Highway کا، اس کی ایک تو مرمت ہونی چاہیے، تاکہ وہاں یہ جو accidents ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں، کیونکہ وہاں سے بہت heavy traffic cross کرتی ہے، جو سندھ پنجاب کے بیچ میں link road ہے۔ یہ دو شکایات ہیں، خدا را ان پہ نظر ثانی کی جائے۔ Thank you.

جناب چیئر پرسن: Thank you، علی محمد خان صاحب، please۔

جناب علی محمد: شکریہ سر! آج کل یہاں پہ بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں صرف دو تین منٹ چاہوں گا، زیادہ میں بات نہیں کرتا، ضروری دو تین چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ، وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ، آئینہ چیئر پرسن صاحب!

آئینہ نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

پاکستان اس وقت ایک مشکل مرحلے سے دوچار ہے۔ ہمیں بہت سے challenges درپیش ہیں اور اللہ نے کرم کیا ہے ایک ایسے موقعے پہ، جب ہمارے برادر اسلامی ملک ایران پہ دنیا کی طاقت نے حملہ کیا، تو اس ایوان نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ جب بھی پاکستان اور امت مسلمہ کی بات آئی، تو ہم لوگوں نے اپنے بہت سے سیاسی اختلافات بھلا کے، ہم نے یہاں سے ایک message دیا۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب ہمارا برادر ملک China یہاں آیا ہے، تو آج بھی ہم نے اپنے اختلافات کچھ لمحوں کے لیے side پر رکھے اور ان کو ایک ہی message دیا یہاں سے اور وہ دیکھ رہے تھے، مجھے یقین ہے دوستوں کو یہاں کوئی Opposition، یا حکومت نظر نہیں آرہی تھی، بلکہ ان کو یہاں صرف پاکستانی نظر آرہے تھے، جو ان کو support کرتے ہیں، کیونکہ ہم پچھتر سال کی دوستی منا رہے ہیں، Diplomatic relations between Pakistan and China.

میں یہاں صرف آپ کے سامنے دو نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب جب پاکستان کی call آئی، تحریک انصاف، عمران خان، ہم نے اپنے اختلافات ایک side پر رکھے، حکومت کو support کیا کہ پاکستان کو ضرورت ہے۔ پچھلے سال جب پاک بھارت جنگ تھی، تو آپ اس بات کے witness ہیں کہ یہاں سے ہماری پاک افواج اور شاہینوں کو strength ملی، اور اللہ نے ہمیں عزت دی۔

وہ ایک موقع حکومت نے ضائع کیا کہ اس کے بعد وہ Opposition کو اگر engage کرتے، لیکن اللہ نے ایک اور موقع دیا کہ جب ایران والا معاملہ ہوا، اور ان دنوں ہماری ایک احتجاجی call تھی پنڈی میں۔ ہمارے Treasury Benches کے honourable colleagues سے ہمارے پاس آئے Opposition lobby میں۔ اس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، خواجہ آصف صاحب اور ہمارے قابل قدر دوست اس طرف تشریف لائے۔ انہوں نے request کی کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو negotiations چل رہی ہیں، ان میں ہمارا ایک role ہے۔ America اور Iran کے بیچ میں جو negotiations چل رہی ہیں، Pakistan کا کلیدی role ہے، تو اس وقت آپ یہاں احتجاجی جلسہ نہ کیجئے۔ اور ہم نے وہاں پہ ان کو support کیا، اور میں نے خواجہ آصف صاحب کو یہ عرض کی کہ آج کے دن ہم کوئی شرط نہیں رکھ رہے، حالانکہ ہم پہ criticism ہوئی، ہماری اپنی جماعت کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی بات نہیں رکھی۔ ہم نے صرف یہ کہا کہ پاکستان کی سر! آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے جی! خواجہ آصف صاحب کو میں نے عرض کیا کہ ہم غیر مشروط حکومت کو support کر رہے ہیں تاکہ پاکستان ایران والے معاملے میں ایک مضبوط کردار ادا کرے۔ اس لئے Opposition اس میں آپ کے ساتھ ہے۔

لیکن میں نے اس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب یہ معاملہ بخیر و خوبی حل ہو جائے گا، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، ان کی جو health کا معاملہ ہے، ان کی wife کی health کا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ ان کو hospital تک رسائی دیں گے، اور یہ معاملات political انداز میں حل کریں گے۔ تو میں آگے کا ایک راستہ دیتا ہوں۔ یہاں تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ہم ادھر الزام لگاتے ہیں، وہ ادھر سے الزام لگاتے ہیں۔ میں نے کل Opposition lobby میں محترم Opposition Leader جناب محمود خان ایچکڑی صاحب سے question کیا، اور یہ بات قومی مفاد میں ہے، اس لیے Floor پر رکھنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جناب، آپ کو کیا وزیراعظم پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی کوئی دعوت ملی ہے؟ اگر ملی ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا ”ملی ہے“۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ ضرور ان کو، اس پہ positive response دیں، اور ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تحریک انصاف کے لاکھوں، کروڑوں voters، supp-torters آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ بالکل اس میں نہ ہچکچائیں۔ پاکستان کے مفاد کی خاطر، کوئی اگر مذاکرات کا راستہ چل پڑتا ہے Opposition Leader صاحب اور وزیراعظم صاحب کے بیچ میں، تو اس سیاسی ماحول میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈالیں۔

جناب چیئر پرسن: علی صاحب، Point of Order پر speech نہیں ہوتی جی۔

جناب علی محمد: بس میں اس کو windup کرتا ہوں۔ ہم اس کو support کرتے ہیں، اور یہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب، جن پہ political cases ہیں، ماضی میں آپ کی leadership نے بھی ان کا سامنا کیا، تو آئیں مل کے بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔ خان صاحب بھی باہر آئیں، میاں صاحب بھی میدان میں آئیں، سارے بیٹھ کے پاکستان کے لیے کوئی بڑا سوچیں۔ اس آیت کے ساتھ میں

ختم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، کہ جب مومنین مسلمانوں کے بیچ میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میری اور آپ کی بات سے مقدم اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں:

”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“

کہ جب مومنین کے بیچ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو شوریٰ کرتے ہیں۔ میں بار بار اس ایوان میں یہی کہتا ہوں کہ شوریٰ کیجئے، بیٹھ کے گفتگو کیجئے، اور اللہ تعالیٰ انشاء اللہ ہمیں آگے کاراستہ دکھائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔

CALLING ATTENTION NOTICE REG: NON-AVAILABILITY OF TRANSFORMER REPAIR WORKSHOP/ LABORATORY IN DISTRICT LAYYAH, PUNJAB

Mr. Chairperson: Item No. 07 will be deferred to next Business Day.

عثمان بازئی صاحب، جھکڑ صاحب۔ Sorry۔ please۔ آپ آگئے۔ جھکڑ صاحب، please.

Mr. Awais Haider Jakhar: Thank you Mr. Speaker! I invite attention of the Minister for Power to a matter of public importance regarding non-availability of transformer repair workshop laboratory in District Layyah, Punjab, causing grave concern among the public.

جناب چیئر پرسن: عامر طلال صاحب۔ please.

پارلیمانی سیکرٹری برائے توانائی، پاور ڈویژن (جناب عامر طلال خان): جی جناب سپیکر! honorable Member نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میں transformer repairing workshop نہیں ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ تونسہ کی جو transformer reclamation workshop D G khan میں ہے، اور Layyah District کے لیے transformer repairing workshop Multan میں ہے۔

No. 02 یہ ہے سر! کہ اس کے علاوہ Layyah Division میں، transformer mounted trolleys بھی all Layyah and Taunsa Divisions میں، کہ کسی بھی قسم کی emergency کو address کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ lot of transformers of different KVAs are available for any emergency.

اس ساری صورتحال میں، چونکہ already Multan میں ایک transformer repairing workshop کام کر رہی ہے، تو نئی workshop کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے کافی سارے funds available ہوتے ہیں، جو ابھی DISCOs اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ Thank you.

جناب چیئر پرسن: جی اویس حیدر جھکڑ صاحب، to ask one question۔

جناب اولیں حیدر جھکڑ: بہت شکریہ، سر۔ میں اپنے بڑے بھائی عامر سے تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف کروں گا۔ دیکھیں جی، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ Multan میں بھی اور DG Khan میں availability ہے TRWs کی، لیکن ہمیں یہ ضرورت پیش آئی ہے، تو میں نے یہ submit کیا تھا اس ایوان میں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، Layyah میں تین لاکھ باسٹھ ہزار connections ہیں، اور سات Sub-Divisions ہیں، اور تین proposals گئی ہوئی ہیں، ایک Sub-Division کی bifurcation کے لیے، اور ایک extra one Sub-Division کے لیے۔

تو گزارش یہ ہے کہ جب ہم ایک یا دو دن بجلی کا bill دیر سے دیتے ہیں، تب تو WAPDA والے فوراً آجاتے ہیں، آپ کا meter اتار دیں گے، لیکن جب transformer خراب ہوتا ہے، تو کوئی بھی ملازم وہاں پہ نہیں پہنچتا اس کو repair کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس availability نہیں ہے workshops کی۔ لوگ پیسے اکٹھے کر کے، کسی سے پانچ سو لیا جاتا ہے، کسی سے ہزار لیا جاتا ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کبھی private طریقے سے اس کو repair کراتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گرمیوں میں بہت زیادہ جب burden بڑھتا ہے، تو جو Multan والی workshop ہے، وہ ہمیں Layyah کو suit نہیں کرتی۔

تو میری یہ گزارش ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے funds درکار ہیں، لیکن جو deprived regions ہیں، ان کے لیے کب یہ funds دیے جائیں گے؟ میری یہ submission ہے۔

جناب چیئر پرسن: جی عامر طلال صاحب۔

جناب عامر طلال خان: جی سر! اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں اپنے honourable بھائی کے ساتھ بیٹھ کے، تو ان کا یہ جو personal issue ہے، اس کو میں address بھی کرتا ہوں، اور CEO, MEPCO سے میں بات کروں گا، وہ direct ان سے بات بھی کریں گے، اور یہ جو issue ہے، یہ ان کی بات صحیح ہے کہ گرمیوں میں چونکہ workshop over burdened ہو جاتی ہے، تو اس میں تھوڑے سے مسائل آجاتے ہیں۔ لیکن ان شاء اللہ، اس Calling Attention Notice کی وجہ سے، میں CEO, MEPCO کو کہوں گا، ان سے رابطہ بھی کریں گے، میں خود بھی ان سے رابطہ کرتا ہوں، اور ان کے اس issue کو ان شاء اللہ resolve کرتے ہیں۔ Thank you.

Mr. Chairperson: Thank you. Khawaja Sheraz Mehmood Sahib to ask one question, not present. Mr. Muhammad Miqdad Ali Khan Sahib to ask one question, not present.

Mr. Chairperson: The House is adjourned to meet again on Friday, the 22nd May, 2026, at 11:00 a.m.

(The House was adjourned to meet again on Friday, the 22nd May, 2026, at 11:00 a.m.)